



دیکھو یہ (قرآن) نصیحت ہے پس جو چاہے اسے یاد رکھے

Quran with Urdu Translation

Fateh Muhammad Jalundhari

(فتح محمد جالندھری)

سورۃ عَبَسَ

اردو ترجمہ Urdu Translation

Click This Bar to Listen Audio

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَبَسَ وَتَوَلَّى (1)

(محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) ترش رو ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے

أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (2)

کہ انکے پاس ایک نابینا آیا

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (3)

اور تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا

أُوَيْدَ كَرَفَتْنَفَعَهُ الذِّكْرَى (4)

یا سوچتا تو سمجھنا سے فائدہ دیتا

أَمَّا مَنْ اسْتَعْفَى (5)

جو پروا نہیں کرتا

فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (6)

اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو

وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّيَّسِي (7)

حالانکہ اگر وہ نہ سنورے تو تم پر کچھ الزام نہیں

وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (8)

اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا

وَهُوَ يَخْشَى (9)

اور (خدا سے) ڈرتا ہے

فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (10)

اس سے تم بے رخی کرتے ہو

كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (11)

دیکھو یہ (قرآن) نصیحت ہے

فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ (12)

پس جو چاہے اسے یاد رکھے

فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ (13)

قابل ادب ورقوں میں (لکھا ہوا)

مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ (14)

جو بلند مقام پر رکھے ہوئے (اور) پاک ہیں

بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (15)

(ایسے) لکھنے والے کے ہاتھوں میں

كِرَامٍ بَرَرَةٍ (16)

جو سردار اور نیکو کار ہیں

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (17)

انسان ہلاک ہو جائے کیسا ناشکر ہے

مِنْ أَيْ شَيْءٍ خَلَقَهُ (18)

اسے (خدا نے) کس چیز سے بنایا؟

مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (19)

نطفے سے بنایا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (20)

پھر اس کے لئے راستہ آسان کر دیا

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (21)

پھر اس کو موت دی پھر قبر میں دفن کرایا

ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ (22)

پھر جب چاہے گا اسے کھڑا کرے گا

كَلَّا لَمَا يَقْضِي مَا أَمَرَهُ (23)

کچھ شک نہیں کہ خدا نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہیں کیا

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (24)

تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے

أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (25)

بیشک ہم ہی نے پانی برسایا

ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (26)

پھر ہم ہی نے زمین کو چیرا پھاڑا

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (27)

پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا

وَعِنَبًا وَقَضْبًا (28)

اور انگور اور ترکاری

وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (29)

اور زیتون اور کھجوریں

وَحَدَائِقَ غُلْبًا (30)

اور گھنے باغ

وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (31)

اور میوے اور چارا

مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (32)

(یہ سب کچھ) تمہارے اور تمہارے چارپایوں کے لیے بنایا

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ (33)

تو جب (قیامت کا) غل مچے گا

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34)

اس دن بھائی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا

وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (35)

اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے

وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (36)

اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے

لِكُلِّ امْرِيٍّ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (37)

ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہو گا جو اسے (مصروفیت کے لئے) بس کریگا

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ (38)

اور کتنے منہ اس روز چمک رہے ہوں گے

صَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ (39)

خندداں و شاداں (یہ مومنان نیکو کار ہیں)

وَوُجُوهُ يُومِنُونَ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (40)

اور کتنے منہ ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی

تَرَهُنَّهَا قَتَرَةٌ (41)

(اور) سیاہی چڑھ رہی ہوگی

أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (42)

یہ کفار بد کردار ہیں



© Copy Rights:
Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana
Lahore, Pakistan
www.quran4u.com